



رسول اللہ ﷺ سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: ”اے اللہ! میرے تمام چھوٹے اور بڑے، اگلے اور پچھلے، علانیہ اور پوشیدہ گناہ معاف فرما دے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”رسول اللہ ﷺ سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: ”اے اللہ! میرے تمام چھوٹے اور بڑے، اگلے اور پچھلے، علانیہ اور پوشیدہ گناہ معاف فرما دے۔“
[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کرتے تھے: ”اللهم اغفر لي ذنبي“ یعنی اے اللہ! میرے لیے میرے گناہ بخش دے، ان پر پردے ڈال دے، درگزر اور جسم پوشی فرما ”كله“ سارے گناہ یعنی ”دقہ“ چھوٹے اور معمولی گناہ ”وجلہ“ بڑے اور زیادہ گناہ ”وأولہ“ پہلے گناہ ”وأخرہ“ آخری گناہ اور درمیان کے تمام گناہ ”علانیته وسره“ علانیہ اور پوشیدہ گناہ، جنہیں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/5470>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

